

مضبوط تر اور صحتمند تر اونٹاریو

اونٹاریو بجٹ 2017



صحت کی نگہداشت کو مضبوط کرنا

اونٹاریو میں رہنے والے لوگ عوامی فنڈ سے فراہم کرنے والی اعلیٰ درجہ کی نگہداشت کے مستحق ہیں۔ اسی لئے حکومت نظام صحت کو مبدل بنانا جاری رکھے ہوئے ہے - اس طرح مریض اور ان کے خاندان جب اور جہاں انہیں صحیح علاج کی ضرورت ہے حاصل کر سکیں۔ اونٹاریو آئندہ تین سالوں پر محیط صحت کی نگہداشت پر \$11.5 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری بڑھا رہی ہے تاکہ نگہداشت تک رسائی بڑھانی جا سکے، اوقات انتظار میں کمی کی جائے اور مریضوں کا تجربہ بہتر بنایا جا سکے۔ 2017 کے متوازن بجٹ میں نیا \$7 بلین ڈالر بوسٹر اثرائے صحت کی دیکھ بھال، 2016 کے بجٹ میں کئے گئے وعدوں کے پورا کرنے کے لئے شامل ہیں۔



نئے اور بہتر شدہ ہسپتال

معیاری نگہداشت اور خدمات تک بہتر رسائی۔



مفت ڈاکٹری نسخہ جات کی دوائیں

ہر شخص جو 24 سال یا اس سے کم عمر ہے بذریعہ اوائج آئی پی+ بچوں اور نوجوانوں کے لئے فارماکینر۔



اوقات انتظار میں کمی


خاص قسم کی نگہداشت اور خدمات، جن میں مزید ایم آر آئی، کیناراکٹجراحیوں اور کولہے اور گھٹنے کے بدلنے کی جراحیوں شامل ہیں۔

ہم کس طرح مدد کر رہے ہیں

اونٹاریو اس طرح عمل پیرا ہے:

- ڈاکٹری نسخہ جات کے تحت تمام بچوں اور نوجوانوں کو مفت دوائیں جس کا آغاز جنوری 2018 سے ہو گا۔ کینیڈا میں ایسا کرنے والا یہ پہلا صوبہ ہو گا۔
- ابتدائی نگہداشت کو بڑھانا تاکہ وہ خدمات جو ڈاکٹر، نرسیں، سماجی کارکن اور دیگر صحت کی نگہداشت کرنے والے پیشہ ور فراہم کرتے ہیں۔
- مزید گھریلو اور کمیونٹی نگہداشت بذریعہ گھریلو نرس، ذاتی امداد والے جسمانی علاج اور سکون کا وقفہ فراہم کرنے والی خدمات سے۔
- خاص قسم کی صحت کی نگہداشت تک رسائی کو بڑھانا جن میں کولہے اور گھٹنے کو بدلنا اور ایم آر آئی، اور آنکھوں کی خدمات شامل ہیں تاکہ اعلیٰ معیار کی نگہداشت دی جاسکے اور اوقات انتظار میں کمی کی جاسکے۔
- اعانت برائے دماغی علاج اور نشہ کے عادی لوگوں کے لئے پیش قدمیاں جیسے کہ تشکیل شدہ نفسیاتی علاج، امدادی گھروں اور نوجوانوں کی خدمات۔
- مخبوط الحواسیکے شکار اور ان کی نگہداشت کرنے والے لوگوں کی خدمات میں بہتری لانا۔
- مالی اعانت کو طویل المدت گھروں اور خدمات کے لئے بڑھانا تاکہ رہائشی نگہداشت کو صحتمندانہ خوراک اور خصوصی عملہ کے ساتھ بہتر بنایا جا سکے۔
- 17 ہسپتالوں اور کمیونٹی کلینکس میں کہنہ درد کے علاج کے پروگراموں کو ترقی دینا۔
- ایسے بچے، نوجوان اور خاندان جو فیٹالاکولہسیکٹرم ڈس آرڈر کے ذریعہ متاثر ہوئے ہوں ان کے لئے خدمات کو بڑھانا تاکہ معیار زندگی کو بہتر بنائیں۔

اوتٹاریو صوبے بھر میں ہسپتالوں کی توسیع و تجدید کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔



5 نئے ہسپتال کے منصوبے

- نیا گرا ہیلتھ سسٹم - نیوساوتھ نیواگرا ہسپتال - بڑا منصوبہ
- مسی ساگہ میں ٹریلم ہیلتھ پارٹنرز - ایک وسیع از سر نو تجدید کا منصوبہ
- ونڈسریجنل ہیلتھ سینٹر - نیو گرین فیلڈ ہسپتال کا منصوبہ
- وینی بے کو ایریا ہیلتھ اتھارٹی - ہسپتال کا از سر نو تجدید کا منصوبہ
- ہیملٹن ہیلتھ سائنسز ایمیلٹن - از سر نو تجدید کا منصوبہ

ہسپتال کے منصوبے

